

عورتوں کا سویمنگ سیشن میں جانا کیسا
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ

الاستفتاء: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں
کہ عورتوں کا صرف عورتوں والے سویمنگ سیشن (Swimming Sessions) میں جانا کیسا ہے ؟

سائلہ: ایک بہن (انگلینڈ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِکِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِّی التَّوَرَّعَ وَالصَّوَابَ

عورتوں کا صرف لیڈیز والے سویمنگ پول وغیرہ پر جانا بھی ممنوع ہے کیونکہ
عموماً وہاں عورتیں ستر کھول کر نہاتی ہیں جس سے بدننگاہی ہوتی ہے کیونکہ جس
طرح مرد مردوں کے پرائیویٹ پارٹس نہیں دیکھ سکتے بلکہ ناف کے نیچے سے لے
کر گھٹنوں کے نیچے تک ستر ہے ان کا دیکھنا یا دکھانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح
عورتوں کا عورتوں سے انہیں اعضاء کا پردہ ہے یعنی کوئی عورت دوسری عورت
کے ناف کے نیچے سے گھٹنے کے تک نہیں دیکھ سکتی۔

جیسا کہ فقہی حنفی کی معتبر کتاب ہدایہ میں ہے: "وَتَنْظُرُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْمَرْأَةِ إِلَى مَا يَجُوزُ
لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ مِنَ الرَّجُلِ" عورت دوسری عورت کے وہی چیزیں دیکھ سکتی ہے
جو مرد دوسرے مرد کی دیکھ سکتا ہے۔

(الہدایہ، کتاب الکراہیۃ، فصل فی الوطء والنظر واللمس، ج ۲، ص ۳۷۰)

اور اسی روایت کو صاحب ہدایہ نے اصح قرار دیا جیسا کہ وہ فرماتے ہیں: "وَالْأَوَّلُ
أَصَحُّ"

اور بہار شریعت میں ہے: عورت کا عورت کو دیکھنا، اس کا وہی حکم ہے جو مرد کو
مرد کی طرف نظر کرنے کا ہے یعنی ناف کے نیچے سے گھٹنے تک نہیں دیکھ سکتی
باقی اعضا کی طرف نظر کر سکتی ہے۔ بشرطیکہ شہوت کا اندیشہ نہ ہو۔

جبکہ سویمنگ پول میں اس کا لحاظ نہیں کیا جاتا ہے لہذا ایسی جگہ ممنوع ہے ہاں
اگر کوئی ایسا سویمنگ پول ہے جہاں ایسے پردے کا لہذا کیا جاتا ہے تو وہاں جانا بھی
جائز ہوگا اور وہاں شرعی پردہ کر کے سویمنگ کرنا بھی جائز ہے۔

وَاللّٰهُ تَعَالٰی اَعْلَمُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری

Date: 12-02-2019

How is it for females to go swimming?

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله

QUESTION:

What do the scholars of the Din and muftis of the Sacred Law state regarding the following issue: How is it for women to attend a females only swimming session?

Questioner: A sister from England

ANSWER:

بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

Women are to refrain from also going to a females only swimming pool, etc. because it is usually the case that women bathe there (having their sitr) uncovered, causing one to become occupied in sin with one's eyes [in looking unlawfully]. This is because just how a male cannot look at the private parts of another male, rather, the veiled area being from the navel up to and including the knees; looking at or showing this is not permissible, likewise, females have the same veiling with other females i.e. a woman cannot look at the area from the navel up to and including the knees of another woman.

Just as it is stated in the authentic book of Hanafī Fiqh al-Hidāyah,

"وَتَنْظُرُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْمَرْأَةِ إِلَى مَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ مِنَ الرَّجُلِ"

"A female can look at those body parts of another female which a male is permitted to look at that of another male."

[al-Hidāyah, vol 2, pg 370]

The author of al-Hidāyah has actually regarded this quote as most correct, just as he has stated,

"وَالأَوَّلُ أَصَحُّ"

Likewise, it is stated in Bahār-e-Sharī'at that the ruling of a female looking at another female is the same as that of a male looking at a male. In other words, she cannot look at another female from below the waist up to [and including] the knees. Though, she is allowed to look at the rest of another female's body, on the condition that there is no danger of lustful feelings.

[Bahār-e-Sharī'at, vol 3, part 16, pg 443]

Whereas, this cannot be taken into account in a swimming pool area, thus one is to refrain from this. Yes, if there is such a swimming pool in which there are precautions in place with regards to veiling, then going there is permissible, and swimming there having veiled oneself according to Sharī'ah would also be permissible.

والله تعالى اعلم ورسوله اعلم صلى الله عليه وآله وسلم
كتبه ابو الحسن محمد قاسم ضياء قادري

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri

Translated by Haider Ali